

## FASIT

### Relative setninger

#### Øvelse 1: Ordspråk محاورے

2. Oversett følgende urdu-ordspråk. Kan du finne norske ordspråk med omtrent den samme betydningen?

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Ingen roser uten torner              | - جہاں پھول وباں کانٹا -         |
| Du kan hvis du vil                   | ب - جہاں چاہ وباں راہ -          |
| Ingen røyk uten ild                  | پ - جہاں دھوان وباں آگ -         |
| Som far, så sønn                     | ت - جیسا باپ ویسا بیٹا -         |
| Du må tute med de ulver du er iblant | ٹ - جیسا دیس ویسا بھیس -         |
| Som man redrer, så ligger man        | ث - جیسا بوئے گے ویسا کاٹو گے -  |
| Så lenge det er liv, er det håp      | ج - جب تک سانس تب تک آس -        |
| Bjeffende hunder biter ikke          | چ - جو گرختے ہیں وہ برستے نہیں - |
| Mange munner, mye snakk              | ح - جتنے منہ اُتنی بھی باتیں -   |
| Makt er rett / Makta rår             | خ - جس کی لانہی اُس کی بھینس -   |

#### Øvelse 2

Sett inn riktig form av det korrelative ordet. Hvis du er i tvil, se på tabellen.

- |   |
|---|
| ا - جس لڑکی نے پیالہ توڑ دیا اُسے بلاؤ -                  |
| ب - جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے وہ پاگل ہوں گے -             |
| پ - جو کتاب میز پر ہے اُسے / وہ پڑھ لینا -                |
| ت - جب سے تم آئے ہو تب سے میں نے کام بھی نہیں کیا ہے -    |
| ٹ - جب تک وہ نہیں کھائیں گے تب تک میں بھی بھوکا رہوں گا - |

#### Øvelse 3

Sett inn riktig form av det relative ordet. Hvis du er i tvil, kan du finne en nøkkel ved å se på det korrelative ordet i den korrelative delsetningen.

- |  |
|--|
| ا - جس لڑکی نے پیالہ توڑ دیا اُسے بلاؤ -                         |
| ب - جب تک ہمارے پاس پیسہ رہے گا تب تک ہم اسی ہوٹل میں ٹھریں گے - |
| پ - جب سے پاکستان آیا ہوں تب سے میں اردو بھی بول رہا ہوں -       |
| ت - جن لوگوں کو ہم نے کل دیکھا تھا وہ حامد کے نئے پڑوسی ہیں -    |
| ٹ - جیسے ہی ہم بیٹھ گئے ویسے ہی بتی بند ہو گئی -                 |

**Øvelse 4**

- a) Et denominativt verb består av et substantiv eller adjektiv og **karnā**.  
 b) Et eksempel på et transitivt denominativt verb er **sāf karnā**, ‘å gjøre rent’. Alle denominative verb som dannes med **karnā** er transitive!  
 c) Gjør det transitive verbet som du har nevnet om til et intransitivt verb: **sāf honā**.  
 d) Gjør det følgende transitive verb om til et intransitivt verb. (For eksempel: Når ble romanen oversatt?)

کس نے اس ناول کا ترجمہ کیا؟ —> اس ناول کا ترجمہ ۲۰۰۰ میں ہوا۔

- e) Hva betyr **tarjama karnā**? — ‘å oversette’

**Intransitive og transitive verb****Øvelse 5**

Velg et intransitivt eller transitivt verb og oversett setningen. (Ordliste på neste side)

ا - (بننا - بنانا)

کارخانے میں مشینیں بنتی ہیں۔

اس کارخانے میں مزدور مشینیں بناتے ہیں۔

ب - (گزرنا - گزارنا)

ہوائی جہاز شہر کے اوپر سے گزرا۔

میں نے کئی دن شہر میں گزارے۔

پ - (بکنا - بیچنا)

ہمیں اپنا مکان بیچنا پڑا۔

یہاں شراب نہیں بکتی۔

ت - (چلنا - چلانا)

کیا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟

یہ مشین نہیں چلتی، خراب ہے۔

ٹ - (رُکنا - روکنا)

ریل گاڑی اس سٹیشن پر نہیں رکتی۔

مہربانی سے گاڑی یہاں روک دیجئے۔

ث - (پھٹنا - پھاڑنا)

تم نے کتاب سے صفحہ کیوں پھاڑا؟

میرا دل پھٹ جائے گا۔

ج - (ٹوڑنا - توڑنا)

اُس کی ٹانگ ٹوڑ گئی مگر جان تو بچ گئی تھی۔

بچے نے ایک پھول توڑا۔

چ - (نکلنا - نکالنا)

ادیب کی کتاب نکل رہی ہے۔

کس نے یہ کتاب نکالی؟